

2nd Foreign Office Consultations between India and Mozambique

July 04, 2022

ہندوستان اور موزمبیق کے درمیان دفتر خارجہ سے متعلق دوسری مشاورت

04 جولائی 2022

ہندوستان اور موزمبیق کے درمیان دفتر خارجہ سے متعلق دوسرے دور کی مشاورت 4 جولائی 2022 کو نئی دہلی میں منعقد ہوئی۔ ہندوستانی فریق کی قیادت جوائنٹ سیکریٹری (مشرقی اور جنوبی افریقہ) جناب پونیت آر کنڈل نے کی، جبکہ موزمبیق فریق کی قیادت موزمبیق کی وزارت برائے خارجہ امور اور تعاون میں شعبہ ایشیا اور اوقیانوسیہ کے ڈائریکٹر جناب اسماعیل والیگی نے کی۔

2۔ دفتر خارجہ سے متعلق مشاورت کے دوران، دونوں وفود نے کثیر جہتی دوطرفہ تعلقات کا جائزہ لیا، جس میں سیاسی تبادلوں، ترقیاتی شراکت داری کے منصوبوں، دفاعی اور سیکورٹی تعاون، تجارتی اور اقتصادی معاملات، قونسلر امور، اور زراعت، کھیلوں، جیسے شعبوں میں تعاون کا احاطہ کیا گیا۔ دونوں فریقین نے عوام سے عوام کے مابین تبادلوں اور ثقافتی تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔

3۔ ہندوستانی فریق نے موزمبیق کو 2023-24 کی مدت کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت کے لیے منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں تعاون، جنوبی افریقہ کے ترقیاتی تعاون (ایس اے ڈی سی) اور افریقی کانٹینینٹل فری ٹریڈ ایریا (اے ایف سی ایف ٹی اے) سمیت عالمی ترقی اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔

4۔ دونوں فریقین نے شراکت داری کو متحرک اور باہمی طور پر سود مند بنائے رکھنے کے لیے اعلیٰ سطح کے سیاسی تبادلوں اور مشترکہ ادارہ جاتی میکانزم کی باقاعدہ اجلاس جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔

5۔ مذاکرات دوستانہ اور خوشگوار ماحول میں منعقد ہوئے۔ دونوں فریقین نے ماپوٹو میں باہمی طور پر مناسب تاریخ پر مشاورت کا اگلا دور منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔

نئی دہلی

04 جولائی، 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.